

NOTE:- It should be completed in the first 20 minutes and handed over to the Centre Superintender Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Q. 1 Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark. (i) The group of sectors is considered one block. In the language of computer this group is called		CELL CO. A.A.	ed. Zi	Minutes				
(i) The group of sectors is considered one block. In the language of computer this group is called A. Cluster B. Platter C. Cylinder D. None of these (ii) The Slot for adjusting RAM over Mother Board is commonly called A. Bus B. Bank C. Bit D. None of these (iii) What is called the scale used to measure the speed of work of processor? A. Byte B. Farad C. Hertz D. None of these (iv) One Byte stores character(s). A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program For Examiner's use only:		It s	tion-A hould	is compulsory. All parts be completed in the fit	rst 20 minutes and	handed over to the Centre Superintenden		
called	Q. 1	Circle	the co	errect option i.e. A / B / C	/ D. Each part carries	one mark.		
A. Cluster C. Cylinder D. None of these (ii) The Slot for adjusting RAM over Mother Board is commonly called A. Bus C. Bit D. None of these (iii) What is called the scale used to measure the speed of work of processor? A. Byte C. Hertz D. None of these (iv) One Byte stores character(s). A. 1 C. 3 C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(i)	The	group of sectors is conside	red one block. In the la	anguage of computer this group is		
C. Cylinder D. None of these (ii) The Slot for adjusting RAM over Mother Board is commonly called		707	2.5	5 151				
(ii) The Slot for adjusting RAM over Mother Board is commonly called			A.	Cluster	В.	Platter		
A. Bus C. Bit D. None of these (iii) What is called the scale used to measure the speed of work of processor? A. Byte C. Hertz D. None of these (iv) One Byte stores			C.	Cylinder	D.	None of these		
C. Bit D. None of these What is called the scale used to measure the speed of work of processor? A. Byte C. Hertz D. None of these C. Hertz D. None of these One Byte stores character(s). A. 1 C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 B. 386 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(ii)	The S	Slot for adjusting RAM ove	r Mother Board is com	monly called		
(iii) What is called the scale used to measure the speed of work of processor? A. Byte C. Hertz D. None of these (iv) One Byte stores C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:			A.	Bus	B.	Bank		
A. Byte C. Hertz D. None of these (iv) One Byte stores character(s). A. 1 C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 B. 386 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:			C.	Bit	D.	None of these		
C. Hertz One Byte stores character(s). A. 1 C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 B. 386 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(iii)	What	t is called the scale used to	measure the speed o	f work of processor?		
(iv) One Byte stores character(s). A. 1			Α.	Byte	В.	Farad		
A. 1 C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:			C.	Hertz	D.	None of these		
C. 3 D. 4 (v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 B. 386 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(iv)	One	Byte storesc	haracter(s).			
(v) Which of the following processors was the first CPU introduced having Multi-Tasking capabilities? A. 286 B. 386 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called			Α.	1	В.	2		
A. 286 C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:			C.	3	D.	4		
C. 486 D. None of these (vi) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(V)	Whic	h of the following processo	ors was the first CPU ir	ntroduced having Multi-Tasking capabilities?		
(vii) The thin lines seen on the Mother Board are called A. Jumper B. Bus C. Slot D. None of these (viii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program C. Networking D. Program For Examiner's use only:			A.	286	B.	386		
A. Jumper C. Slot D. None of these (vii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:			C.	486	D.	None of these		
C. Slot D. None of these (viii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(vi)	The f	thin lines seen on the Moth	er Board are called			
(viii) What is called the method for a Network out, structure organization or connecting computers with each other? A. Networking B. Topology C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program C. Networking D. Program For Examiner's use only:			Α.	Jumper	B.	Bus		
with each other? A. Networking C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program Program For Examiner's use only:			C.	Slot	D.	None of these		
A. Networking C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(vii)	Wha	t is called the method for a	Network out, structure	organization or connecting computers		
C. Communication D. None of these (viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program C. Networking D. Program For Examiner's use only:			with	each other?				
(viii) Any program or task which computer performs for a user is called A. Applets B. Application program C. Networking D. Program For Examiner's use only:			A.	Networking	B.	Topology		
A. Applets C. Networking D. Program For Examiner's use only:			C.	Communication	D.	None of these		
C. Networking D. Program For Examiner's use only:		(viii)	Any program or task which computer performs for a user is called					
For Examiner's use only:			A.	Applets	B.	Application program		
			C.	Networking	D.	Program		
		For E	xamine	er's use only:				
l Otal Marks:				e e	T-4-	Marke: 02		
					lota	II IVIAI KS:		
					2SA 1226	1		

The state of the s

Roll No. Sig. of Candidate	Answer Sheet No				THE REAL PROPERTY OF THE PROPE		
	ئ ير ايد (گل نبر80	كمپيوٹر سارڈ و صّماوّل	<u> پ</u>	20 مند	وقت		
رے حوالے کردیاجائے۔ کا شکر دوبارہ کلینے کی اجازت نہیں لیڈ پٹسل کا استعمال ممتوع ہے۔	دی ہے۔اس	حصهاؤللا	توٹ:				
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	يحالفاظ ليحنى الف ربارج رد ميس سے درسد		نبرا:			
	ر پیرگروپ کمپیوٹر کی ب۔	کے گروپ کوایک بااک (Block) تصور کرلیاجا تا ہےاہ کلسٹو		(i)			
درج شدہ میں ہے کوئی نہیں		سيلنذر					
		کاوپردیم(RAM) لگانے کے لیے بنی ہوئی ایک در بس بٹ	الف	(ii)			
		ب (Processo) کے کام کی رفتار کو ماینے کے لیے است		(iii)			
		بائث					
درج شده میں ہے کوئی میں	٠,	25.	-2				
	9-	ہے(Byte) کتنے کر یکٹر (Character) سٹور کرتا	ایکبائٹ	(iv)			
2		1	الف				
4	-3	3	-2				
واياكيا؟	لے ساتھ متعارف کر	وسيسر يبهلا CPU تفاجيع ملى ناسكنگ كى صلاحيت _		(V)			
386			الف				
درج شدہ میں ہے کوئی تبین	- 9		-2				
		Mother Board) پرنظرآنے والی باریک لائنیں 		(vi)			
		برچر	الف_				
درج شدہ میں ہے کوئی نہیں		سلائ م مراجع مراش م		6			
		رک کے لیے آؤٹ (out) سٹر کچرآ رگنا ٹزیشن ما		(vii)			
ٽُو لِولو جي (Topology) ۾ هند ڪ ڏڻيد		نیٹ ورکنگ (Networking) کیونیکیشن (Communication)					
دری سره میں سے اوی تیں اشار سال میں اسال کی المان	ر ـ ا / (اامم	سیود - ن (Communication) دوگرام یا کوئی ٹاسک(Task) جوکمپیوٹرایک یوزر(ن- که کی بھی ر	(viii)			
ہمرانجام دیا ہے۔ اپلیکیشن پروگرام (Application program)		درام یا کون ماحک (Task) بو پیورایک پورو(ایملیش (Applets)		(viii)			
	ر	نیٹ در کنگ (Networking)					

----- 2SA 1226 -----

08



3.5

COMPUTER HARDWARE SSC-II

Student Bounty Com Time allowed: 2:40 Hours Total Marks Sections B and C: 32 NOTE:- Answer any six parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly. SECTION - B (Marks 18) Attempt any SIX parts. The answer to each part should not exceed 3 to 4 lines. $(6 \times 3 = 18)$ What is the difference between Platter and Cylinder? Write a short note on Floating point processor. Write a short note on Register. Write a short note on Mother Board. What is the difference between Address Bus and Data Bus? (V) What is the difference between Print server and Communication server? Write a short note on Multi-Tasking Operating System. (Viii) Write a short note on Zip Drive SECTION - C (Marks 14) $(2 \times 7 = 14)$ Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. Write a detailed note on Hard disk drive. 07 07 Describe the merits and demerits of DOS. Write notes on the following: DRAM and SRAM Power Supply 3.5+3.5 حته دوم (گل نمبر 18) مندرجدؤيل اجزاء ميس سے چھ (06) كے تكن سے چارسطروں تك محدود جوابات كھيں: سوال نمبرا: (6x3=18)پلیٹر اور سیلنڈر میں کیافرق ہے؟ (i) فلوننگ پوائنٹ پروسیسر (Floating Point Processor) پرمخضرنوٹ تکھیں۔ (ii) رجير (Register) رمختفرنوٹ لکھیں۔ (iii) مدر بوردُ (Mother Board) رمخضرو سي لكهيل-الدريس بس (Address Bus) اور وَيَا بس (Data Bus) سيس كيافرق ع ینٹ سرور اور کمیونیکیشن سرور میں کیافرق ہے؟ (vi) ملنى ناسلنگ آپریننگ سشم (Multi-Tasking Operating System) پخترنو ئے کھیں۔ (vii) زي ڈرائيو (Zip Drive) پرمختفرنوٹ کھيں۔ (viii) حقه سوم (گل نبر 14) (كوئى سے دو سوال حل يجي منام سوالوں كي نمبر برابر ہيں۔) (2x7=14)سوال نمبرس: باردُ دُسك دُرائيو (Hard Disk Drive) يَنْفَسِلُ نُوتُ كَتَّعِيهِ -07 سوال نمبر من DOS کخوبیان اور خامیان بیان کریں۔ 07 سوال نمبره: مندرجه ذیل پر نوع لکھیں: الف _ ياورسيالكَن (Power Supply) 3.5

---- 2SA 1226 -----

(DRAM and SRAM) ورسطيك ريم اور سليك ريم